



سوال

(162) قیامت کے دن قربانی کا جانور سواری کا کام دیگا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سکھر سے عطاء اللہ دریافت کرتے ہیں کہ قیامت دن قربانی کے جانور ہمارے لیے سواری کا کام دیں گے کیا اس کے متعلق کوئی حدیث ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہمارے واعظین اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں "اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن ہل صراط پر سواری کا کام دیں گی کتب حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث مروی نہیں ہے اس کے متعلق حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث محدثین کے ہاں غیر معروف ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ (کشف الخفاء: 2/75)

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں: ان الفاظ کے ساتھ مروی یہ حدیث بالکل بے بنیاد ہے۔ (سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، 1/102)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے حوالہ سے ایک حدیث کی نشاندہی کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "اپنی قربانیوں کو خوب موٹا کرو اس لیے کہ وہ ہل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ (تلخیص الجیمیر 4/138)

پھر خود ہی اس پر قدانہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی سند میں یحییٰ بن عیید اللہ نامی ایک راوی انتہائی ضعیف ہے۔ (حوالہ مذکورہ)

محدثین نے اس راوی کے متعلق ضعیف الحدیث منکر الحدیث اور متروک الحدیث کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا باپ عبید اللہ بن عبد اللہ بھی مجہول ہے جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر معروف ہے ان وجوہات کی بنا پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں۔ کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ ان میں بے اصل روایت کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ نہ کیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ واعظین حضرات ایسی من گھڑت احادیث بیان کرنے سے گریز کریں کیا کہ بے اصل اور ساختہ احادیث سے کسی قسم کا استجاب ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کے بیان کرنے پر سخت وعید آئی ہے قربانی کے فضا نل میں بے شمار صحیح احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں انہیں بیان کرنا چاہیے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
مہدش فتویٰ

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 192